



**22 April 2022: Federal Minister Shazia Marri chaired a review meeting at the Benazir Income Support Program Office and discussed the expansion of the program.**

Secretary Ismat Tahira gave a briefing on the programs and structure of the organization.

Federal Minister for Poverty Alleviation and Social Security, Shazia Marri, sought suggestions for improving the payment system of Benazir Income Support Program and issued instructions to further improve it before the release of next installment. She made a review of eligibility and exclusion criteria for deserving persons in the program.

Shazia Marri said that it was unfair to remove deserving people from the program on the basis of unnecessary filters. She said that it was not right to exclude deserving persons from the program on the basis of foreign visits for attending religious rituals alone.

She said that the exclusion of people from Benazir Income Support Program on the basis of mobile spending is unfair.

Shazia Marri said that if people have to be expelled from the program, then first empower them.

In the end, she said that the name of Bibi Shaheed would be used with all the programs as major programs are being run under the supervision of BISP.

بینظیر انکم سپورٹ پروگرام

پریس ریلیز

وفاقی وزیر شازیہ مری نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام آفس میں جائزہ اجلاس کی صدارت کی اور پروگرام کو مزید وسعت دینے پر غور کیا گیا۔

سیکرٹری عصمت طاہرہ نے پروگراموں اور ادارے کے سٹریکچر پر بریفنگ دی اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے افسران کا تعارف کرایا۔

وفاقی وزیر برائے تخفیف غربت و سماجی تحفظ، شازیہ مری نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ادائیگی نظام کو بہتر بنانے کیلئے تجاویز طلب کیں اور اگلی قسط سے پہلے اس کو مزید بہتر بنانے کی ہدایات جاری کیں اور مستحق افراد کی پروگرام میں شمولیت اور اخراج کے معیار کا نظام کا جائزہ لینے کا اعادہ کیا۔

شازیہ مری نے افسران کو ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ غیر ضروری فلٹرز کی بنیاد پر پروگرام سے مستحق لوگوں نکالنا ناجائز ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف عمرے کی بنیاد پر مستحق افراد کو پروگرام سے نکالنا ٹھیک نہیں۔ غریب لوگ جو مذہبی رسومات یا زیارت کیلئے بیرون ملک جائیں تو کیا وہ مستحق نہیں رہتے؟

انہوں نے کہا کہ غریب لوگ اگر قرض یا امداد لیکر بیرون ملک علاج کیلئے جائیں تو کیا وہ امداد کے مستحق نہیں۔ موبائل خرچ کی بنیاد پر لوگوں کا پروگرام سے اخراج مستحق لوگوں سے بے انصافی ہے۔

شازیہ مری نے کہا کہ اگر پروگرام سے لوگوں کا اخراج کرنا ہی ہے تو پہلے ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کریں۔

آخر میں انہوں نے کہا کہ تمام پروگراموں کے ساتھ ہی بی شہید کا نام استعمال ہوگا کیونکہ بی آئی ایس پی ہی کے زیر نگرانی بڑے پروگرام چلائے جا رہے ہیں۔

از دفتر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام

ٹکرز

وفاقی وزیر شازیہ مری نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام آفس میں جائزہ اجلاس کی صدارت کی

بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو مزید وسعت دینے پر غور

بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ادائیگی نظام کو بہتر بنایا جائے گا، شازیہ مری

مستحقین کی پروگرام میں شمولیت اور اخراج کے معیار کا دوبارہ جائزہ لیں گے، شازیہ مری

غیر ضروری فلٹرز کی بنیاد پر پروگرام سے مستحق لوگوں نکالنا ناجائز ہے، شازیہ مری

غریب لوگ جو مذہبی رسومات یا زیارت کیلئے بیرون ملک جائیں تو کیا وہ مستحق نہیں رہتے؟ شازیہ مری

صرف عمرے کی بنیاد پر مستحق افراد کو پروگرام سے نکالنا ٹھیک نہیں، شازیہ مری

اگر پروگرام سے لوگوں کا اخراج کرنا ہی ہے تو پہلے ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کریں، شازیہ مری